

الأسم الموصول

Relative pronoun

الأسم الموصول اسم معرفه کی اقسام میں سے ہے۔

(وصل) مادہ سے "وَصَلَ" سے مراد جوڑنا، تعلق رکھنا، ملانا وغیرہ "موصول" کے لغوی معنی ہیں (جوڑا ہوا)

Ism Mausul is one of the kinds of Ism Marifah. From the root 'Wow Suad Laam' Wasal means to join, to connect. The literal meaning of the word Mausul is 'one Joined/connected'.

Terminological Meaning of Alism AlMausul : الأسم الموصول اصطلاحی معنی:

عربی گرامر میں "الأسم الموصول" سے مراد وہ اسم جو دو جملوں یا اسم یا مرکب کو ملانے کے لیے آتے ہیں۔

In Arabic grammar by Alism AlMausul is meant the Ism which occurs to connect two sentences or phrases or nouns.

مندرجہ ذیل اسماء "الإسم الموصول" ہیں۔

The following Asmaa (nouns) which are Allsm AlMausul:

الَّذِي ، الَّذِينَ ، الَّتِي ، الَّتِي / اللَّامِي

اکیلے "الإسم الموصول" کا اپنا معنی واضح نہیں ہوتا اسے اپنا معنی واضح کرنے کے لیے اپنے بعد ایک جملے کی ضرورت

ہوتی ہے۔ "الإسم الموصول" کے معنی کی وضاحت کرنے والا جملہ صِلَةُ الموصول کہلاتا ہے۔

"الإسم الموصول" بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جزء بنتا ہے۔

The meaning of Allsm AlMausul is not clear by itself. It requires a sentence after it to clarify its meanings. This sentence which clarifies the meanings of Allsm AlMausul is called 'Silah AlMausul'.

مثلاً (وہ خوش ہوا وہ جو) اتنا کہ کر آپ خاموش ہو جائیں تو جملہ پورا نہیں ہوتا۔ اور بات کا مفہوم سمجھ نہیں آتا کہ وہ جو

خوش ہو اس سے کون مراد ہے؟ "الَّذِي" کے بعد والا جملہ ((وہ جو)) امتحان میں کامیاب ہوا) اس کے معنی کو واضح

کر رہا ہے۔

e.g. The sentence ' He became happy who ...' is not complete. It is not clear who is referred to being happy. The sentence after Allazi (who)'passed the exams' clarifies its denotation.

فَوْحِ (الَّذِي) نَجَّحَ فِي الامْتِحَانِ

وہ خوش ہوا (وہ جو) امتحان میں کامیاب ہوا

He who passed the exams became happy.

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (الَّذِينَ) هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (الماعون: 4,5)

پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں

So woe to those who pray Those who delay their Salat (prayer from their stated fixed times).

آیت میں (الَّذِينَ) کون سے لوگ ہیں وہ جو (هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) یہ جملہ (الَّذِينَ) کی وضاحت کر رہا ہے۔

In the Ayah Who are the people referred to by Allazina? They are 'those who are heedless of their prayer'. This sentence explains Allazina.

الاسم الموصول جملے میں (مبتداً، خبر، مضاف إليه، نعت، اسم مجرور، فاعل، مفعول) وغیرہ بن کر آسکتا ہے۔

اسم موصول زیادہ تر نعت بن کر آتا ہے اور اس کا منعت معرفہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسم موصول معرفہ ہے۔

Relative pronoun can be معرفہ اسم معرفہ because the relative pronoun is معرفہ according to its منعت is معرفہ because the relative pronoun is معرفہ according to its منعت. Most of the time it comes as نعت. And its معرفہ اسم معرفہ because the relative pronoun is معرفہ according to its منعت.

عَدَدٌ	مَرْفُوعٌ	مَنْصُوبٌ	مَجْرُورٌ	إِعْرَابٌ
لِلْمَفْرُودِ الْمَذْكَرِ	الَّذِي allathee (یہ وہ) جو/ جس کو That one who/ that one which	الَّذِي allathee (یہ وہ) جو/ جس کو That one who/ that one which	الَّذِي allathee (یہ وہ) جو/ جس کو That one who/ that one which	مَبْنِيٌّ Fix
لِلْمَثْنِيِّ الْمَذْكَرِ	الَّذَانِ allathayni (یہ وہ دو) جو/ جن کو Those two who/ those two which	الَّذَيْنِ allathayni (یہ وہ دو) جو/ جن کو Those two who/ those two which	الَّذَيْنِ allathayni (یہ وہ دو) جو/ جن کو Those two who/ those two which	مُعْرَبٌ Declinable

<p>مَبْنِي</p> <p>Fix</p>	<p>الَّذِينَ</p> <p>allatheena</p> <p>(یہ وہ سب) جو/جن کو</p> <p>Those all who/ those which</p>	<p>الَّذِينَ</p> <p>allatheena</p> <p>(یہ وہ سب) جو/جن کو</p> <p>Those all who/ those which</p>	<p>الَّذِينَ</p> <p>allatheena</p> <p>(یہ وہ سب) جو/جن کو</p> <p>Those all who/ those which</p>	<p>للجمع المذكر</p>
<p>مَبْنِي</p> <p>Fix</p>	<p>الَّتِي</p> <p>allatee</p> <p>(یہ وہ) جو/جس کو</p> <p>That one who/ that one which</p>	<p>الَّتِي</p> <p>allatee</p> <p>(یہ وہ) جو/جس کو</p> <p>That one who/ that one which</p>	<p>الَّتِي</p> <p>allatee</p> <p>(یہ وہ) جو/جس کو</p> <p>That one who/ that one which</p>	<p>للمفردة المؤنثة</p>
<p>مَعْرَب</p> <p>Declinable</p>	<p>الَّتَيْنِ</p> <p>allatayni</p> <p>(یہ وہ دو) جو/جن کو</p> <p>Those two who/ those two which</p>	<p>الَّتَيْنِ</p> <p>allatayni</p> <p>(یہ وہ دو) جو/جن کو</p> <p>Those two who/ those two which</p>	<p>الَّتَانِ</p> <p>allataani</p> <p>(یہ وہ دو) جو/جن کو</p> <p>Those two who/ those two which</p>	<p>للمثنى المؤنثة</p>
<p>مَبْنِي</p> <p>Fix</p>	<p>الَّذِي، الَّتِي</p> <p>allaatee / allaee</p> <p>(یہ وہ سب) جو/جن کو</p> <p>Those all who/ those which</p>	<p>الَّذِي، الَّتِي</p> <p>allaatee / allaee</p> <p>(یہ وہ سب) جو/جن کو</p> <p>Those all who/ those which</p>	<p>الَّذِي، الَّتِي</p> <p>allaatee / allaee</p> <p>(یہ وہ سب) جو/جن کو</p> <p>Those all who/ those which</p>	<p>للجمع المؤنثة</p>

صِلَّةُ الْمَوْصُولِ (silat-ul-mawusul)

Relative Clause / Relative Adjective

(وصل) مادہ سے "صِلَّة" کے لغوی معنی ہیں (جوڑ، انعام، امداد) یعنی وہ جملہ جو "الإِسْمُ الْمَوْصُولُ" کا "صِلَّة" کہلاتا ہے۔ وہ اسم موصول سے مل کر اس کے معنی کو واضح کرنے میں مدد کرتا ہے۔

From root 'Wow Suad Laam' Silah means connection, prize, and assistance. The sentence which is called Silah of Ism Mausul helps to explain its meanings.

صِلَّةُ الْمَوْصُولِ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے۔

Silah AlMausul can be a Jumlah Ismiah or Jumlah Fa'iliyah.

صِلَّةُ الْمَوْصُولِ وضاحت کو الإِسْمُ الْمَوْصُولُ کے لیے خاص کر دیا ہے، یعنی الإِسْمُ الْمَوْصُولُ کے معنی صِلَّةُ الْمَوْصُولُ کے واضح کیے گئے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا۔

The Silah AlMausul explanation is particularized for AlIsm AlMausul. It means the meaning of AlIsm AlMausul is none other than the one explained by the Silah AlMausul.

یاد رہے صِلَّةُ الْمَوْصُولِ ہمیشہ الإِسْمُ الْمَوْصُولُ کے بعد آتا ہے۔ اور یہ دونوں مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں۔

Remember Silah AlMausul always comes after AlIsm AlMausul and together they become the part of a sentence.

إِعْرَابُ کے لحاظ سے "الإِسْمُ الْمَوْصُولُ" بھی تین اعرابی حالتیں (مَرْفُوعٌ مَنْصُوبٌ یا مَجْرُورٌ) ہوتی ہیں۔

AlAsmaa AlMausulah are found in three conditions of Ea'raab, Murfua', Mansoob and Majroor.

ضمير عائد

Dhameer A'aed

Returning (pronoun)

جو جملہ صلۃ الموصول بنتا ہے اس میں ایک ضمیر کا ہونا لازمی ہے۔ یہ ضمیر الاسم الموصول کی طرف لوٹتی ہے۔ اس ضمیر کا مخصوص نام "ضمیر عائد" ہے۔


The sentence which is Silah AlMausul, must have a Dhameer (pronoun) which recurses to Allism AlMausul. This Dhameer has a specific name "Dhameer A'aed".

عائد سے مراد پلٹنے والا، لوٹنے والا۔ "ضمیر عائد" (پلٹنے والی ضمیر)

A'aedun means one who returns, one who comes back.

- "ضمیر عائد" صلۃ الموصول اور الاسم الموصول کے درمیان ربط کا فائدہ دیتی ہے۔

(The returning Dhameer) Dhameer A'aed is a connection between Allism AlMausul and Silah AlMausul



پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔

Who are neglectful of their prayers those who (want but) to be seen (of men).

